

شہادت و سچ فہر موودہ

گولزار تکا لہ فہر موودہ کانی پیغہ مہر
صلی اللہ علیہ وسلم

بؤ ہہ موو ٹاستہ کان

چاپی یہ کہم

۲۰۱۲



منتدى اقراء الثقافى

www.iqra.ahlamontada.com

شەست و سى فەرمووده

كولبژيرىك له فەرمووده كانى پيغمبەر (صلی اللہ علیہ وسلم)

بۆ ھەموو ئاستەکان



شہادت و سیّٰی فرمودہ

ناوی کتیب:- شهست و سی فہرموودہ

کوکردنہوہ و نامادہ کردنی:- محمہد عیزمت عہدولقادر

نہخشہسازی بہرگ و ناوہوہ:- نامادہ کار

چاپ:- چاپی یہ کہم

ژمارہی سپاردن:- لہ بہرپوہ بہرایہتی کتیبخانہ گشتیہکان

۱۸۹۹ ی سالی ۲۰۱۱ ی پیدراوہ.

پيشه كى

كاتىكى زۆر بىرم دەكرده وه كه بتوانم فەرمووده كانى
پيشه مبه ر (صلى الله عليه وسلم) كۆبكه مه وه له
ناميلكه يه كى بچوكدا و بۆ هه موو ئاسته كان ببيت و
هه موو كه سيك بتوانيت سوودى ليوه رگريت، هۆكارى
دهست كردن به ئاماده كردنى ئەم ناميلكه يه ئەوه بوو
بتوانم كه پوخته يه كه له كورتترين و پرواتاترين
فەرمووده كانى پيشه مبه رى خوا (صلى الله عليه وسلم) ي
تيدا كۆ بكه مه وه بۆ ئەوه ي ئيمه ي موسولمان زياتر له
فەرمووده كانى پيشه مبه ر (صلى الله عليه وسلم) تيبگه ين.

فہرمودہ لہسہر بیہ و باوہر و ٹیمان

فہرمودہی یہ کہم:- عَن أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ (رضي الله عنه) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم): (لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَاَلِدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ).

(انس) (خوای لی رازی بیئت) دہ لئ: ینفہمبہری خوا (صلی اللہ علیہ وسلم) فہرمودہتی: (کہستان باوہری دامہرزروی نیبہ ہہ تا منی لہ مندا لہ کانی و لہ باوک و دایکی و لہ ہموو خہ نکیش خوشتر نہ ویئت).

فہرمودہی دووہم:- عَن أَنَسِ (رضي الله عنه)، عَنِ النَّبِيِّ (صلى الله عليه وسلم) قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِجَارِهِ ، أَوْ قَالَ: لِأَخِيهِ، مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ).



شبهت و سی فرموده

(انس) (خوای لی رازی بیت) ده‌تن: پینقه‌مبه‌ری خوا (صلی الله علیه وسلم) فرموده‌تی: (سوتند به‌ودی گیانی منی به‌دسته، هیچ به‌ندیه‌ک ایمانی ناینت هتا نه‌ودی یز غوی پینی خوشه بو دراوسینگی . یا‌الله‌رمووی بو براهی پینی خوش نه‌بیت). واته: (ایمانی ته‌واو نیه).

فرموده‌ی سیبیم: - عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ (رضی الله عنه): أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) يَقُولُ: (ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا).

(عباس) کوری (عبدالطلب) (خوای لی رازی بیت) ده‌تن: پینقه‌مبه‌ری خوا (صلی الله علیه وسلم) فرموده‌ی: (نامی باوهری چه‌شتووه! نه‌و که‌سه‌ی رازی بیت به‌ودی که خوا په‌روه‌دگاری بیت، نی‌سلام ناینی بیت، معمه‌د پینقه‌مبه‌ری بیت).

فہرموودہی چوارہم:- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه):
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) قَالَ: (لَا يَدْخُلُ
الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَائِقَهُ).

(ابوہریرہ) (عواى بن ہازی بیئت) دەلى: پئفہ مہرى خوا (صلى الله عليه وسلم)
فہرموودہتى: (ناچیتہ بہہشت نەوى دراوسیکەى لەشەرو غراپەى نەمین نەبیئت).

فہرموودہی پینجەم:- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه)
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم):

(لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى
تَحَابُّوا، أَوْ لَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟
أَفْتَسُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ).

شہادت و سیّ فہرموودہ

(ابوہریرہ) (خوای لیٰ ہازی بیّت) دہلئی: پیغمبہری خوا (صلی اللہ علیہ وسلم) فہرموودہتی: (ناچنہ بہہشت ہاتا نیمان نہینن، نیمانیش ناہینن، ہاتا یہکترتان خوش نہوت، نایا شتیکتان پی بلیم نگہر بیکہن یہکترتان خوشدہوت؟ سلام نہیہکتری زوریکہن).

فہرموودہی شہشہم: - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه)،
عَنِ النَّبِيِّ (صلی اللہ علیہ وسلم) قَالَ: (لَا يُلَدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ
جُحْرِ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ).

(ابوہریرہ) (خوای لیٰ ہازی بیّت) دہلئی: پیغمبہری خوا (صلی اللہ علیہ وسلم) فہرمووی: (نیماندار نہیہک کونہوہ دووجار ناگہ زرت).

فہرموودہی حہوتہم: - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه)
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی اللہ علیہ وسلم): (اِثْنَتَانِ فِي

النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرًا: الطُّغْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى
الْمَيِّتِ).

(ابوہریرہ) (خوای لی بازی بیٹا) دہلی: پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم)
فہرمودہ تی: (دو جوڑ لہ خہ لکی کوفریان تیدایہ، تانہ و تہ شہردان لہ رہ چہ لہ ک
وشین وشہ پور لہ سہر مردوہ).

فہرمودہ ہی ہشتہم: - عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ)
عَنِ النَّبِيِّ (صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ: (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى
خَمْسٍ: عَلَى أَنْ يُوحَّدَ اللَّهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ،
وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَالْحَجِّ). فَقَالَ رَجُلٌ: الْحَجُّ وَصِيَامُ
رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: لَا، صِيَامُ رَمَضَانَ وَالْحَجُّ، هَكَذَا سَمِعْتُهُ
مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)).

شہادت و سی فہرموودہ

(ابن عمر) (خوای لی بازی بینت) دهئی: پیغہمبہری خوا (صلی اللہ علیہ وسلم) فہرموویہتی: (نیسلام لہ سہر پینج شت بنیات تراوہ: خوا بہدیک بناسیت، نوژڈ بکہیت، زہکات بدہیت، رُوژووی پمہزان بگریت، حدج بکہیت) پیاونک وتی: حدج و رُوژووی پمہزان؟ لہوہ لامدا وتی: نہخیر، رُوژووی پمہزان و حدج، بہم شیویہ لہ پیغہمبہرم (صلی اللہ علیہ وسلم) بیستوہ.

فہرموودہی نوپہم: - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه)
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم): (إِنَّ اللَّهَ
تَبَارَكَ وَتَعَالَى تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ
يَتَكَلَّمُوا أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ)

(ابوہریرہ) (خوای لی بازی بینت) دهئی: پیغہمبہری خوا (صلی اللہ علیہ وسلم) فہرموویہتی: (خوای گہورہو بالادہست لہوشتانہی نومہتم دہبوریت کہبہخہ یائیاندہ دیت، مادام نہیلین یان نہیکہن).



فہرموودہی دہیہم: - عن أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ (رضي الله عنه) قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ (صلى الله عليه وسلم):

(أَنَا أَوَّلُ شَفِيعٍ فِي الْجَنَّةِ، لَمْ يُصَدَّقْ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَا صُدِّقْتُ، وَإِنَّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيًّا مَا يُصَدِّقُهُ مِنْ أُمَّتِهِ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ).

(انس) کوہی (مالک) (خوای بن رازی بیت) دہن: پیٹھمبہر (صلی اللہ علیہ وسلم) فہرموویہتی: (من یہ کدم شہ فاعہ تکارم لہ بہ ہشتا، ہیج پیٹھمبہر تک بہ قہد من خہ تک باوہری پیٹھہیناوہ لہ ناو پیٹھمبہر اندا، پیٹھمبہر ہدیہ لہ ناو میللہ تہ کیدا کس باوہری پیٹھہیناوہ جگہ لہ یدک پیاو).

شہست و سیٰ فرمودہ

دہست نویژ و پاک و خاوینی

فرمودہی یانزہہم:- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) قَالَ: (اتَّقُوا اللَّعَّانِينَ). قَالُوا: وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: (الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ).

(ابوہریرہ) (خوای لی ہازی بیت) دہلی: پیغمبرہری خوا (صلی اللہ علیہ وسلم) فرمودی: (خوتان ہپارژن لہو دوو نہ فرہت لیکراوہ) وتیان: لہو دوو نہ فرہت لیکراوہ چین لہی پیغمبرہر (صلی اللہ علیہ وسلم)؟ فرمودی: (لہوی لہ سہرہ رنگای غہ لکیدا پیسی دہکات، یان لہ سٹیہرہ کانیاندا). [(کہ جینگای دانیشتی غہ لکہ)].

شہست و سیٰ فہرموودہ

فہرموودہی دوانزہہم: - عَنْ أَنَسٍ (رضي الله عنه)
قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) إِذَا دَخَلَ
الْخَلَاءَ قال: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْتِ وَالْخَبَائِثِ).

بِسْمِ اللَّهِ

بجوابتہ سہر ناو دہیفہرموو: (اللهم انى اعوذ بك من الخبث والخبائث). واتہ:
غوايہ پدنا دہگرم بہتو لہہموو جوڑہ پیس و ہہموو زیانبہ خشیک لہ شہیتان و
جانہ و ہرو ہدرشتیکیتر کہ پیس و زیانبہ خش بیتا).

فہرموودہی سیانزہہم: - عن أبو هريرة (رضي الله
عنه) قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم): (إِذَا
تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخَرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ، ثُمَّ
لِيَنْتَنِّ).

شہادت و سیّ فہرموودہ

(ابوہریرہ) (خوای لن رازی بیت) دہ لن: پیئفہمہری خوا (صلی اللہ علیہ وسلم) فہرمووی: (نہ گہر یہ کیکتان دستونیزی گرت با ناو نہ کونہ لوئہ کانی و ہر دات، ئینجا فن بکات).

فہرموودہی چوارہ دہہم: - عن جَابِرِ (رضی اللہ عنہ) قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ (صلى الله عليه وسلم) يَقُولُ: (إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشُّرْكِ وَالْكَفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ).

(جابر) (خوای لن رازی بیت) دہ لن: بیستوومہ نہ پیئفہمہری خوا (صلی اللہ علیہ وسلم) فہرموویہ تی: (نہ نیوان مروؤف و ہاوہل بی خوا بریاردان و کوفردا نوئز نہ کردنہ).

فہرموودہی پازہ نزہہم: - عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (رضي الله عنه): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) قَالَ: (الَّذِي تَفَوُّتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وَتَرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ).

شہست و سیٰ فرمودہ

(عبداللہ) کوہی (عمر) (خوای لہ پازی بیٹ) دہ لہ: ینفہمبہری خوا (صلی اللہ علیہ وسلم) فرمودی: (نہوی نویژی عہسری دہجیت ہرہوگو نہوہویہ مال و خیزانی تالان کرایت).

فرمودہی شانزہہم: - (مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَىٰ إِلَىٰ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ، لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ، كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالْأُخْرَىٰ تَرْفَعُ دَرَجَةً).

(ابوہریرہ) (خوای لہ پازی بیٹ) دہ لہ: ینفہمبہری خوا (صلی اللہ علیہ وسلم) فرمودی: (ہرکس لہمالی خویمان دہستویژ بگرت و پاشان ہروات بؤ مالیک لہمانہکانی خوا، بؤ نہوی لہرزک لہفرزکان خوا نہنجام بدات، ہہنگاہکانی یدکیکیان گوناہیک لادہبات، نہوہیتریان پلہیک بہرزی دہکاتہوہ).

فرمودہی ہزدهہم: - مَنْ بَنَىٰ مَسْجِدًا لِلَّهِ بَنَىٰ اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِثْلَهُ

شہادت و سنی فہرمودہ

(ہرگزس مزگوتیک بؤ خوا دروست بکات خوا له بههشتا بهونہی نہوی بؤ
دروست دمکات).

فہرمودہی ہہژدہہم: - عَنْ زَيْنَبِ الثَّقَفِيَّةِ (رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمْ) قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم):
(إِذَا شَهِدْتَ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا).

(زينب الثقفية) (خوای لن بازی ببت) دلن: پتفہمبہری خوا (صلى الله عليه
وسلم) پنی فہرمودن: (نہگر نافرمتیکتان وستی نامادہی مزگوت ببت با بؤن
نہدات نہخوی).

فہرمودہی نوژدہہم: - الْبُرَاقُ فِي الْمَسْجِدِ حَطِيئَةٌ،
وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا

(تف بؤکردن نہمزگوت تاوانہ، کہفارمتیشی شاردنہوبہتی)



شہست و سیٰ فہرموودہ

فہرموودہی بیستہم:- إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلْ:
اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ. وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي
أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ).

نہ گہر یہ کیکتان چوہہ ناو مزگہوت با بلن: (اللہم افتح لی أبواب رحمتک) واتہ:
خوایہ دہرگاگانی رہمہتی خوتمان بو بکہرہوہ، کاتی چوہہ دہرہوش با بلن:
(اللہم انی اسالک من فضلک) خوایہ گیان من داوای خیرو چاکہت لیدہکہم.

فہرموودہی بیست و یہ کہم:- (خَيْرُ صُفُوفِ الرَّجَالِ
أُولَاهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا. وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا،
وَشَرُّهَا أُولَاهَا).

باشترین ریزی پساوان ریزی یہ کہمہ، خراپترینیشیان دواریزہ، باشترین
ریزی نافرہتایش دواریزیانہو، خراپترینیشیان یہ کہم ریزیانہ
نہ گہر نافرہت لہ مزگہوت لہ گہن پساوان نوئژ بکن، نہ گہر خوئیان
بہ تہنیا نوئژ بکن، لہوا ریزی یہ کہم باشترہ.

شہست و سیٰ فہرموودہ

فہرموودہی بیست و دووہم:- (لَوْلَا أَنْ أُشِقُّ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ - وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ: عَلَى أُمَّتِي - لِأَمْرَتِهِمْ
بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ).

(نہ گہر لہ سہر نیمانداران لہ ریوایہ تکیتردا لہ سہر نومہ تم قورس نہ بوایہ فہرمانم
پندمکردن کہ سیواک بکہن لہ گہن ہہ موو نوڑیکدا).

فہرموودہی بیست و سییہم:- غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى
كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَسِوَاكِ، وَيَمَسُّ مِنَ الطَّيِّبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ

خوشتنی رژی جومہ لہ سہر ہہرکہ سیکی بانفہ لہ گہن سیواک کردن و چہ ندیش
بتوانیت بونی خوش لہ خوی بدات).

شہست و سی فہرموودہ

فہرموودہی بیست و چوارہم: - لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ
وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتَمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ
مِنَ الْغَافِلِينَ).

(نہوانہی نوپڑی جومہہ ناکہن باواز لہو دمفتارہیان بہینن یان خوا مؤری پمش
دہنیت بہسہر دلیانداو پاشان دہچنہ ریڑی غافلانہوہ).

مردوو و گور



شہست و سیٰ فہرموودہ

فہرموودہی بیست و پینجہم: - عن أبي سعيد الخدري
(رضي الله عنه) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه
وسلم): (لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ).

(ابو سعید الخدری) (خوای بن یازی بیت) دہلن: پیقہمبہر (صلی اللہ علیہ وسلم)
فہرمووتانی: (لا الہ الا اللہ بدمن بہگوئی مردووکاتاندا). واتہ: نہوانہی کہ نہ
سہرمہرگدان.

فہرموودہی بیست و شہشہم: - لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ
عَلَى جَمْرَةٍ، فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ، خَيْرٌ لَهُ
مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ).

(نہگہر کہسینک نہ نیوہ لہسہر پشکوڑیہک دابنیشیت ہاتا پوشاکہکھی دہسوتیت و
دہگاتہ پستنی، ہیشتا نہومی چاکترہ نہومی لہسہر گورینک دابنیشیت).



شهست و سی فہرمودہ

فہرمودہی بیست و چوتہم:- اَیْسَ مِّنَّا مَن ضَرَبَ
الْحُدُودَ، أَوْ شَقَّ الْجُيُوبَ، أَوْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

(لہ نیہہ نییہ نہوی لہ رومہتی غوی دہدا یان یہ خہی غوی دادہریت، یاخود
دہنگ و ہاوارى لہ ہرز دہیتہوہ وک ہہردمی نہنامی).

بہشی خیرکردن و زہکات



شہست و سیٰ فہرموودہ

فہرموودہی بیست و ہشتہم:- يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ،
لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِجَارَتِهَا، وَلَوْ فَرَسِنَ شَاقٍ

نہی نافرتمہ موسلمانہکان، باہیج دراوسینہک خیری نافرتمہ دراوسینک ہی بہکام
نہزانیّت، با نہو خیرہ بہ نہندازی نیسقانی بانہ مہرکیش بیت).

فہرموودہی بیست و نویہم:- أَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ
السُّفْلَى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ وَالسُّفْلَى السَّائِلَةُ

دہستی سہرہوہ چاکترہ لہدہستی خوارہوہ، دہستی سہرہوہی بہخشنده، دہستی
خوارہوہی داواکار).

فہرموودہی سیبہم:- (لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ،
وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ).

شہست و سی فہرموودہ

دولہ مندی بہ شتی زور نیہ، بہ لکو دولہ مندی نہویہ کہ دل و دہرون
دولہ مندیت).

فہرموودہ سی و یہ کہم: - عَنْ حُدَيْفَةَ (رضي الله عنه)
عَنِ النَّبِيِّ (صلى الله عليه وسلم) قَالَ: (كُلُّ مَعْرُوفٍ
صَدَقَةٌ).

(حذیفہ) (خوای تن بازی بیت) دہن: پیغمبر (صلى الله عليه وسلم) فہرموی:
(ہموو کردموہدی چاک غیرہ).

فہرموودہ سی و دووہم: - (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرَزِقَ
كَفَافًا، وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ).

(بہ راستی نہو کہسہ سہرفرازہ کہ موسلمان بووو نہو نندی ہدیہ کہ بہشی دکات،
خوایش بازی کردووہ بہو بہ شدی کہ پیتی داوہ).



فہرموودہی سی و سییہم: - إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ
عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ
يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ).

(کاتب کہ سیک مرد دست برداری ہموو کردارنک دہینت، جگہ لہ سی شت:
خیرنکی نہبراوہ و بہردہوام، یا زانستیک کہ سوودی لیبینرنت، یا مندالنکی
باشی ہدینت نزای خیری بڑ بکات).

شهست و سی فہر موودہ

رہمہزان و پوژوو

فہر موودہی سی و چوارہم:- **إِنَّا جَاءَ رَمَضَانَ فَتَّحْتُ
أَبْوَابَ الْجَنَّةِ، وَغَلَّقْتُ أَبْوَابَ النَّارِ، وَصَفَّدْتُ الشَّيَاطِينَ**

کاتی کہ بہمہزان دیت دہروزہکانی بہہشت دہکرتنہومو قابیہکانی دوزخ
دادہخرین و شہیتانہکان کؤت دہکرتن).

فہر موودہی سی و پینجہم:- **(تَسْحَرُوا فَإِنَّ فِي السُّحْرِ
بَرَكَهً).**

پارشینو بکن چونکہ نہ پارشینودا بہرہکت ہہیہ).



شهست و سی فہرموودہ

فہرموودہی سی و شہشہم:- (مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ،
فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلَيْتَمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطَعَمَهُ اللَّهُ
وَسَقَاهُ).

نہوی نہیبری نہبوو کہ بہ پوڑوہ و خواردن یان خوارد نہوہی خوارد بار پوڑوہکھی
تہواو بکات، چونکہ نہوہ خوا خواردن و خوارد نہوہی داوتن).

فہرموودہی سی و حہوتہم:- (أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ
رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ
صَلَاةُ اللَّيْلِ).

(گہورہترین پوڑو دواي پمہزان پوڑووی مانگی (مہرم) ہ کہ پیتی دموترتت (شہراللہ
المہرم) گہورہترین نوٹریش نہ دواي نوٹرہفہ پزمکان شہونوٹرہ.

فہرمودہی سی و ہشتہم:- عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
(رضي الله عنه): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم)
سُئِلَ عَنْ صَوْمِ الثَّانِيَنِ، فَقَالَ: (فِيهِ وُلِدْتُ، وَفِيهِ أُنْزِلَ
عَلَيَّ).

(ابوقتادہ) (خوای لی رازی بیٹ) دہلی: پیغمبر (صلى الله عليه وسلم): کاتیک
دہریاری پوڑوی دوشہموان نیان پرسیوہ ، فہرمودہتی: (من لہو پوڑہدا لہدایک
بووم، لہو پوڑہشدا قورنن دابہزینراومتہ سہرم). [واتہ: بیگرن باشہ]

فہرمودہی سی و نویہم:- عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهَا) قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) إِذَا
دَخَلَ الْعَشْرُ أَحْيَا اللَّيْلَ وَأَيَّظَ أَهْلَهُ، وَجَدَّ، وَشَدَّ الْمِنْرَةَ

شهست و سی فہرمودہ

(عائشہ) (خوای لئِ رازی بیت) دہ لئِ: یتفہمبہر (صلی اللہ علیہ وسلم): کاتئ
گہشتہ دہشوی کز تایی [رہمدزان] شہوگاری (بہ خوا پهرستی) دہبرہدہ سہرو،
خیزانہکانی ہل دہسان و خوئی مانبو دہکردو پشتونئی لئِ قایم دہکرد.

حج و عمرہ

فہرمودہی چل ہہم:- لَّا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

بؤ ہیج نافرمتیک نییہ باومری بہخوا و بؤزی دواپی ہہبیت، بؤزہ رینہک بہبی
مہحرم پروات).

فہرموودہی چل و یہ کہم:- عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهَا) قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم)
بِيَدِي لِحُرْمِهِ حِينَ أُحْرِمَ، وَلِجِلِّهِ حِينَ حُلِّ، قَبْلَ أَنْ
يَطُوفَ بِالْبَيْتِ

(عائشہ) ہاوسہری پیٹھمبہر (صلى الله عليه وسلم). دولتی: بہدہستی غلوم بیونی
غوشم دا لہ پیٹھمبہر (صلى الله عليه وسلم) پیش نیحرام بہستقن، لہدواى نہوش
کہ نیحرامی شکاند، پیش نہومی تہواف بکات بہدموری بیتدا.

فہرموودہی چل و دووہم:- (صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا
خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ، إِلَّا الْمَسْجِدَ
الْحَرَامَ)

شہادت و سی فہرموودہ

(ابو ہریرہ) (خوای لہ پازی بیت) دہ لہن: پیفہ مہبر (صلی اللہ علیہ وسلم)
فہرموودہ تی: (نوینرک لہم مزگہ ولہی من دا غیرترہ لہ ہزار نوینر لہ مزگہ ولہ کانی
تردا، چگہ لہ مزگہ ولہی ہرام).

فہرموودہ ی چل و سییہم: - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي الله
عنه) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم): (عَلَى
أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَائِكَةٌ، لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونَ وَلَا الدَّجَالُ).

(ابو ہریرہ) (خوای لہ پازی بیت) دہ لہن: پیفہ مہبر (صلی اللہ علیہ وسلم)
فہرمووی: (لہ سہر ریگاکانی مہدینہ چہ ندہما فرشتہ ہن، بزئہ تاعون و دہجال
ہووی تی ناکن).

فہرموودہ ی چل و چوارہم: - فَعُمْرَةٌ فِي رَمَّضَانَ
تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي).

(عہرموویہک لہ پرمہ زاندا جتی حہ جیک یاغود حہ جیک لہ گہ لہ مندا دہ گریتہ وہ).



شهست و سی فرموده

خُورَاك و كِرِين و فَرُوشْتَن

فرموده‌ی چل و پینجه‌م: - (مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعُهُ
حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ)

(هەر که سبک خوراکی کړی تا وهری نه‌گرت نه‌یفروشته‌وه)

فرموده‌ی چل و شه‌شه‌م: - (إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَمَ
بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ).

(خوداو پینجه‌به‌ره‌که‌ی مدی و مردارموبوو به‌راز و بتیان حه‌رام‌کردوه)

فرموده‌ی چل و حه‌وته‌م: - (إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلْفِ فِي
الْبَيْعِ، فَإِنَّهُ يُنْفَقُ ثُمَّ يَمْحَقُ).

شہست و سیٰ فرمودہ

نہ کن زور سویند بخون لہامہ لہدا، چونکہ سوین خواردن برمو بہشتہ کہ دمدات بہ لام فہر و بہرہکتی نیہہ ندرگرت).

فہرمودہی چل و ہہشتہم: - مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنَجِّیَهُ اللَّهُ مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيَنْفُسْ عَنْ مُعْسِرٍ، أَوْ يَضَعْ عَنْهُ).

ہدکس ہزدہکات خوا لہ کوسپ و تہگہرہکانی بوزی قیامتہ بزگاری بکات باپہ لہ لہقرزداری نادر نکات، با یا لہقرزکہی ببوریت یالینی داشکینیت.

خواردن و خواردنہوہکان

فہرمودہی چل ونویہم: - كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ).

(ہر خواردنہوہیک مرؤف سہرخوش بکات نہوہ ہرامہ).



فہرموودہی پہنجا ہم:- الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَةِ
إِنَّمَا يُجْرَجُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ).

(نہو کہہدی نہ دھڑی زبوا بغواتہوہ، نہوہ ناگری دوزخ لہ ناوسکیدا قولتہ
قولتی دیت

فہرموودہی پہنجا و یہ کہم:- لَّا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ
قَائِمًا، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ).

باکہستان بہ پیوہ خوارد نہوہ نہ غواتہوہ، ہرکہسے لہ پیری چوہ با برشیتہوہ).

فہرموودہی پہنجا و دووہم:- عَنْ أَبِي قَتَادَةَ (رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ): أَنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) نَهَى أَنْ يُتَنَفَسَ
فِي الْإِنَاءِ.

شہست و سیٰ فہرموودہ

(أبو قتادة) (خوای لی پازی بیت) دهلی: پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) ریگری کردوہ کہ فوریگریت بہ دہری خواردن و خواردنہ ودا.

فہرموودہی پہنجا و سییہم: - إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ
بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ
بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ).

ہدکاتی یہ کیکتان خواردنی خوارد بابہدہستی راستی بیخوات، ہدکاتی ناوی
خواردوہ بابہدہستی راستی بیخواتوہ، چونکہ شہیتان بہدہستی چہ پی دہخوات
و دہخواتوہ).

فہرموودہی پہنجا و چوارہم: - إِنَّ اللَّهَ لَيْرْضَىٰ عَنِ
الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ
فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا

شهست و سی فہر موودہ

خوا لہویدندیہ پازی دہبن کہ ہدر خواردنیکی خوارد سوپاسی خوی لہسہر بکات،
یان ہدر خواردندہوویک بغواتہوہ و سوپاسی خوی لہسہر بکات).

فہر موودہی پہنجا و پینجہم: - کُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ
فَأَكْلُهُ حَرَامٌ.

(ہموو درندہیہکی کہ لہہدار خواردنی حہرامہ)

شہست و سیٰ فہرموودہ

نادابہ کان

فہرموودہی پہنجا و شہشہم: - تَسْمَوُا بِأَسْمِي وَكَلَّا
تَكُونُوا بِكُنْيَتِي).

(بہ ناوی منہوہ ناوینین، بہ لام بہ نازناومہوہ نازناو مہنین).

فہرموودہی پہنجا و حہوتہم: - (إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَيَّ
اللَّهُ: عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ).

(عوضہویستریں ناوتان لای خوا (عبداللہ) و (عبدالرحمن) ہ).



شہست و سی فہرموودہ

فہرموودہی پہنجا و ہشتہم:- خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ
عَلَىٰ أَحِيهِ: رَدُّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةُ
الدَّعْوَةِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِنِ.

(مسلمان پینج نہرگی براکھی لہسہرہ: وہلام دانہوی سہلام، دوعای غیر بڑ
پڑمیو، چوون بہدم دعوتہوہ، سہردانی نہغوش، شوین کہوتی جہنازہ).

إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى ائْتَانِ دُونَ الْآخِرِ حَتَّى
تَحْتَلِّطُوا بِالنَّاسِ، مِنْ أَجْلِ أَنْ يُحْزِنَهُ

نہگہر نیوہ سی کہس بوون، با دوایتان نہگہونہ چہہگردن جیالہویتر، ہہتا
تیکدن دہبن بہغہ لکانیتر، چونکہ نہوکہسہ دلگران دہبیت).

شهست و سی فہرموودہ

بہہشت

فہرموودہی پہنجا و نوہم:- عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي الله
عنه) عَنِ النَّبِيِّ (صلى الله عليه وسلم) قَالَ:

فہرموودہی شہستہم:- (يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَقْوَامٌ أَفْنَدْتُهُمْ
مِثْلُ أَفْنِدَةِ الطَّيْرِ)

(أبو هريره)(خوای لی رازی بیت) ده لن: ینفہمبہر (صلى الله عليه وسلم)
فہرموویہ تی: (کۆمہ نیک دہچنہ بہہشتہوہ دنیان وک دئی بانئندہ وایہ).



شهست و سی فرموده

فرموده‌ی شهست و یه‌که‌م: - **أَهْلُ الْجَنَّةِ فِيهَا
وَيَشْرَبُونَ، وَلَا يَتَغَوُّطُونَ، وَلَا يَمْتَخِطُونَ، وَلَا يَبُولُونَ،
وَلَكِنْ طَعَامُهُمْ ذَاكَ جُشَاءً كَرَشِحِ الْمِسْكِ، يُلْهَمُونَ
التَّسْبِيحَ وَالْحَمْدَ كَمَا تُلْهَمُونَ النَّفْسَ.**

بهر دوام به‌هشتی‌ه‌کان له‌به‌هشتا ده‌خون و ده‌خونه‌وه، نه‌ پسیای دمه‌کن نه‌
چلمیان هه‌یه‌ و، نه‌میز دمه‌کن، به‌لکو پاشه‌پوکی خواردنیان جوړه‌ ترقینه‌یه‌که‌
بوئی هه‌ر له‌ بوئی مسک ده‌چیت. سوپاس و ستایشی خوا دمه‌کن وه‌ک چوئن نیوه‌
هه‌نسه‌ دمه‌ن).

فرموده‌ی شهست و دووه‌م: - **(مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ
يَنَعْمُ لَا يَبَاسُ، لَا تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ).**

(هه‌ر که‌س به‌چیت هه‌ه‌شته‌وه هه‌میشه‌ به‌هرمه‌ند ده‌بیت و ته‌نگزانیی به‌سه‌ردا
نایه‌ت، نه‌جلوبه‌رگی کووت و دا‌پزاو ده‌بیت و نه‌تافی لاوشی به‌سه‌ر ده‌چیت).

شہست و سیٰ فہرموودہ

فہرموودہی شہست و سیٰہم: - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
مَسْعُودٍ (رضي الله عنه) قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صلى
الله عليه وسلم): أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (الصَّلَاةُ
لِوَقْتِهَا).

(عبداللہ) کوہی (مسعود) دہلن: پرسیارم کرد لہ پینفہمبہری عوا (صلی اللہ علیہ
وسلم) کام کار زور چاکہ؟ فہرمووی : (نوئز لہکاتی خوندی)



شەست و سى فەرمووده

له كۆتاييدا:-

سوپاس بۇ خوا توانيم له ئاماده كردنى ئەم ناميلكهيه بيمهوه
و هيواداريشم به نووسيني ئەم ناميلكهيه سووديك به خوّم
و ئيوهه بهرپزيش بگه بهنم، خوا بيخاته بهر پاداشتي دوا
رؤژمان.

له دوعاي خيّر بى بهشمان مه كهن



شہست و سی فہر موودہ

سہرچاوہ :

- صحیح موسلیم
- مختصر صحیح موسلیم - زکی الدین عبدالعظیم
بن عبد القوی المنزری.
- www.dangiislam.org
- برنامج (سابات فہر موودہ)

منتدى اقرأ الثقافي

www.iqra.ahlamontada.com

لهم کتیبہ دا چہ ندین فہر موودہ له دہر بارہی (بیر و باوہر و
 نیعان، دہست نویژ و پاک و خاوتنی، مردوو و گور، خیر کردن
 وزہکات، رہمہزان و روژوو، صہج و عہرمہ، کرین و فروشتن،
 خواردن و خوار دنہ و ہکان، نادابہکان، بہہشتا)
 نامادہ کراوہ .



له بہر پتہ بہر ایہ تی کتیبخانہ گشتیہ کان ژمارہ
 سیار دنی ۱۸۹۹ ی سالی ی ۲۰۱۱ پتدراوہ